



PRESS RELEASE

May 6, 2013

For Immediate Release

Golden Opportunity for the Companies to clear their backlog cases

Islamabad- May 6, 2013: The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), as a part of its eServices policy has introduced a mechanism for the companies to clear their backlog cases pending under ISSUE RESOLUTION.

Cases pending under “Issue Resolution” category have been increasing day by day and currently, approximately 13,000 documents of companies are pending. In order to bring it to zero, a strategy has been devised, wherein companies would be given the opportunity to deal with overdue cases.

SECP has also made it mandatory that all listed companies file their documents, returns, accounts and applications, with the SECP, or the Registrar, through SECP’s eServices online facility.

Filing in eServices is done in a consequential manner. It should be noted that Companies will not be able to file additional documents online, unless preceding documents (i.e. documents already submitted) which were in “issue resolution” status have been resolved and recorded.

To deal with the backlog of pending documents and achieve the objective of mandatory online filing, registrars concerned shall review all the issue resolution cases and ignore minor observations and record the documents accordingly; this will allow the concerned companies to continue filing their documents online.

However, in case of major observations, the matter will be taken up with the concerned companies to remove the deficiencies from their respective filings.

In case no response is received from the companies, the documents will be refused by the concerned registrar and would be considered, as if they had not

Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: _+92 333-5116666

Email: imran.ghaznavi@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk

been filed by the companies, subjecting the companies and their management to prosecution.

The companies are advised in their own interest to clear their backlog and remove deficiencies in their filed documents and statutory returns.

TV Tickers:

1. SECP has provided a golden opportunity for companies to clear their pending cases under “Issue Resolution”
2. Minor observations will be resolved and documents will be recorded by the registrar concerned, immediately.
3. Major discrepancies, if not corrected, will result in rejection of the documents, and prosecution.

Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: _+92 333-5116666

Email: imran.ghaznavi@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk

PRESS RELEASE

May 6, 2013

For Immediate Release

ایس ای سی پی کا زیر التوا ایشو ریزولوشن کے تمام کیسز نمٹانے کا فیصلہ، کمپنیوں کے لئے انضباطی ریکارڈ مکمل کرنے کا سنہری موقع

اسلام آباد (6 مئی) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے تمام رجسٹرڈ کمپنیوں کو کمپنی رجسٹریشن دفاتر میں زیر التوا ایشو ریزولوشن کے ہزاروں کیسز جلداز جلد نمٹانے اور موخر شدہ انضباطی دستاویزات جمع کروانے کے لئے موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام کمپنیوں کا ضروری دستاویزی ریکارڈ مکمل کرنے کے لئے ای سروس پالیسی کے تحت حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔

ایس ای سی پی کے ملک بھر میں قائم کمپنی رجسٹریشن دفاتر میں ایشو ریزولوشن کے تیرہ ہزار کیسز متعلقہ کمپنیوں کی جانب سے ضروری دستاویزات کی عدم فراہمی پر التوا کا شکار ہیں۔ کمپنی رجسٹریشن دفاتر میں زیر التوا ایشو ریزولوشن کے کیسز کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے، ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت معمول کی انضباطی دستاویزات فراہم کرنے کے لئے وقت کی مہلت دی جائے گی اور معمولی نوعیت کی ریکارڈ کی درستگی میں کمپنیوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ ای سروس کی تحت کمپنیاں اس وقت تک نئی دستاویزات جمع نہیں کروا سکتی جب تک، پہلے سے فراہم کردہ دستاویزات بلا کسی اعتراض کے ایس ای سی پی میں جمع نہ کر لیں جائیں۔

تاہم، ضروری اور لازمی انضباطی دستاویزات فراہم نہ کرنے والی کمپنیوں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے گا اور متعلقہ کمپنی کو مجوزہ ریکارڈ یا دستاویز کی فراہمی کے لئے پندرہ دن کا وقت دیا جائے گا۔ کمپنی کی جانب سے جواب موصول نہ ہونے پر، کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور لازمی دستاویز کی فراہمی کے لئے مزید ۱۵ دن کا وقت دیا جائے گا۔ یاد دہانی کے دوسرے نوٹس میں متعلقہ کمپنی کو باور کروایا جائے گا کہ اگر مقررہ وقت کے اندر لازمی دستاویز فراہم نہ کی گئی تو کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کے سیکشن ۴۶۸ کے تحت کمپنی کو متعلقہ دستاویز (سرٹیفکیٹ) کی فراہمی روک دی جائے گی جبکہ کمپنی کی جانب سے اس مد میں جمع کروائی جانے والی فیس بھی ضبط کر لی جائے گی۔

ایس ای سی پی کے کمیشن کی منظور کردہ حکمت عملی کے مطابق ملک بھی قائم تمام کمپنی رجسٹریشن آفس (سی آر اوز) کو ایشو ریزولوشن کے کیسز سے نمٹنے کے لئے ہدایات جاری کر دی گئیں ہیں جبکہ کارپوریٹ سیکٹر کو میڈیا اور ایس ای سی پی کی ویب سائٹ کے ذریعے ضروری انضباطی دستاویزات مقررہ وقت کے اندر جمع کروانے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔

ٹکڑز :

ایس ای سی پی کا زیر التوا ایشو ریزولوشن کی تمام کیسز نمٹانے کا فیصلہ، کمپنیوں کے لئے انضباطی ریکارڈ مکمل کرنے کا سنہری موقع

Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: +92 333-5116666

Email: imran.ghaznavi@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk

رجسٹریشن کے دفاتر میں زیر التوا ایشو ریزولوشن کے ہزاروں کیسز جلداز جلد نمٹانے کے لئے
حکمت عملی ترتیب دے دی گئی : ایس ای سی پی
معمول کی انضباتی دستاویزات اور ریکارڈ فراہم کرنے کے لئے کمپنیوں کو وقت دینے کا فیصلہ: ایس ای
سی پی
مقررہ وقت کے اندر لازمی دستاویز فراہم نہ کرنے کی صورت میں کمپنی کو متعلقہ دستاویز
(سرٹیفکیٹ) کی فراہمی روک دی جائے گی: ایس ای سی پی

Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: _+92 333-5116666

Email: imran.ghaznavi@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk